



نبی ﷺ کے زمانہ میں ﷺ میں اس طرح کا کھانا بہت کم میسر آتا تھا اور اگر میسر آ بھی جاتا تھا تو سوائے ﷺ ماری ﷺ تھیلیوں، بازوؤں اور پاؤں کے کوئی رومال نہیں ہوتا تھا، نماز پڑھ لیتے تھے اور (دوبارے) وضو نہیں کرتے تھے

سعید بن الحارث روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے ایسی چیز کے (کھانے کے بعد) جو آگ پر پکی ہو وضو کے متعلق پوچھا (کہ کیا ایسی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟) تو انہوں نے کہا کہ نہیں نبی ﷺ کے زمانہ میں ﷺ میں اس طرح کا کھانا بہت کم میسر آتا تھا اور اگر میسر آ بھی جاتا تھا تو سوائے ﷺ ماری ﷺ تھیلیوں، بازوؤں اور پاؤں کے کوئی رومال نہیں ہوتا تھا (اور ہم انہی سے اپنے ہاتھ صاف کر کے) نماز پڑھ لیتے تھے اور (دوبارے) وضو نہیں کرتے تھے

[صحیح] [اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے]

سعید بن الحارث نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے اس چیز کے کھانے کے بعد وضو کے بارے میں پوچھا جسے آگ پر پکایا یا بھونا گیا ہو کہ آیا اس پر پھر سے وضو کرنا واجب ہے یا نہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس طرح کی شے کھانے سے وضو کرنا واجب نہیں ہوتا پھر انہوں نے اس کی دلیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نبی ﷺ کے زمانہ میں اس طرح کا کھانا بہت کم میسر آیا کرتا تھا اور جب کبھی میں ایسا کھانا مل جاتا تو (کھانے کے بعد) کھانے کی چکنائی کو صاف کرنے کے لیے ﷺ ماری ﷺ پاس رومال نہیں ہوتا تھا بلکہ ہم اپنی انگلیوں کو چاٹ کر انہیں اپنی تھیلیوں، بازوؤں اور پاؤں کے ساتھ پونچھ لیا کرتے تھے اور پھر نماز پڑھ لیتے اور نئے سرے سے وضو نہیں کرتے تھے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/4960>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

